

21805 - مساجد کی تعمیر کے لیے زکاة صرف کرنے کا حکم

سوال

مسجد کی تعمیر رک چکی ہو اور وہ گرنے کے قریب ہو تو اس پر زکاة کا مال صرف کرنے کا حکم کیا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

علماء کرام کے ہاں معروف ہے، اور جمہور اور اکثر علماء کرام کی رائے بھی یہی ہے، اور یہ پہلے سلف علماء کرام کے اجماع کی طرح ہی ہے کہ مساجد کی تعمیر اور کتابوں وغیرہ کی خریداری میں زکاة صرف نہیں کی جائے گی، بلکہ زکاة ان آٹھ مصارف میں صرف ہو گی جو سورة التوبہ کی آیت میں مذکور ہیں اور وہ یہ ہے:

فقراء و مساکین، زکاة اکٹھی کرنے والے عامل، تالیف قلب کے لیے، غلام آزاد کرانے کے لیے، مقروضوں کا قرض ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے.

اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ جہاد کے ساتھ خاص ہے، اہل علم کے ہاں یہی معروف ہے، اور مساجد یا مدارس کی تعمیر پر زکاة صرف کرنا اس میں شامل نہیں، اور نہ ہی راستوں کی تعمیر شامل ہے.

اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے.